

Maulana Azad National Urdu University
M.Sc. (Botany), I Semester Examination, December 2023

MSBT103CCT : Gymnosperms and Paleobotany

پرچہ : کھل بیج پودے اور رکاز نباتات

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/ خالی جگہ پر کرنا/ مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ $(10 \times 1 = 10 \text{ Marks})$

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً ۱۰۰ (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ $(5 \times 6 = 30 \text{ Marks})$

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ $(3 \times 10 = 30 \text{ Marks})$

حصہ اول

سوال نمبر : 1

خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ Cycas (i)

مندرجہ ذیل میں سے Cycas کی کون سی Species ہندوستان میں سب سے زیادہ کاشت (Cultivate) کی جاتی ہے؟ (ii)

C. revoluta (d) C. Circinalis (c) C. rumphii (b) C. pentinata (a)

Cycas میں زیریگی (Pollination) کس طرح عمل میں آتا ہے؟ (iii)

کسی دو Essential Oils پیدا کرنے والے ہمیو سپرم (Gymnosperm) پودے کا نام لکھیے۔ (iv)

ٹھوچا (Thuja) پودے کے تنے میں کس طرح جمع (Arrange) رہتے ہیں۔ (v)

کس دور میں کھل بیج پودوں کا ارتقاء (during which period) ہوا ہے۔ Mesozoic era (vi)

ان میں سے کوئی نہیں (d) (a) (b) (c)

Triassic (c) Jurassic (b) Cretaceous (a)

مندرجہ ذیل کے عمل سے بنائے جائیں؟ Fossils (vii)

Fertilization (d) Mineralization (c) Decomposition (b) Photosynthesis (a)

Units Geological Time Scale (viii) میں سب سے بڑے سے چھوٹے Unit میں سچ (Correct) ہے۔

eons → eras → periods → epochs (a)

ears → eons → periods → epochs (b)

eons → eras → epochs → periods (c)

period → epochs → eons → eras (d)

J. B. Haldana (d) Vijaya Gupta (c) Korana (b) Birbal Sahni (a)

کس کے نام سے جڑے ہوتے ہیں؟ Fossils 'Fossil beehives' (x)

حصہ دوم

- گینپرمز کی معاشی اہمیت (Economic Importance) بیان کیجیے۔ Gymnperms (2)
- گینپرمز کا تعلق (Affinity) سرخی پودوں (Pteridophytes) سے کس طرح ہے؟ لکھیے۔ Gymnperms (3)
- شکل کے ساتھ بیان کیجیے۔ Male Cone Cycas (4)
- Thuja کی شکلیات (Morphology) تفصیل سے لکھیے۔ (5)
- عمل کی وضاحت (Explain) کریں۔ Fossilization (6)
- پر ایک نوٹ لکھیے۔ Ginko biloba (7)
- پر ایک مختصر نوٹ لکھیے۔ Williamsonia (8)
- Mesozoic Era میں کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ وضاحت کیجیے۔ Diminish (9)

حصہ سوم

- گینپرمز کی عام خصوصیات (General Characteristics) تفصیل سے لکھیں۔ Gymnperms (10)
- Cycas کے سوئی (Needle) کا اندرولنی ساخت کا خاکہ (Internal Diagram) بنائیے اور ساخت (Structure) کو بیان کیجیے۔ (11)
- Old Stem کا اندرولنی خاکہ (Internal Structure) اتارنے کے تھوچ کے کے تھوچ کے (12)
- Geological Time Scale پر بحث (Discussion) کیجیے۔ (13)
- Fossils کے اقسام (Types) بیان کریں۔ جو حقیقت (Factor) کو متاثر کرتا ہے۔ (Affect) بیان کیجیے۔ (14)

